

تعارف شاعر

ابنِ یمن کا نام امیر فخر الدین محمود بن یمن فریودی تھا۔ وہ ۸۷-۱۲۸۶ء میں مغربی خراسان کے قصبہ فریود میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد یمن الدولہ ترکی النسل تھے اور سلطان الجائیکو کے زمانے میں آ کر فریود میں مقیم ہوئے تھے۔  
خواجہ علاؤ الدین وزیر سلطان ابوسعید ان کے مربی تھے۔ ابنِ یمن نے اپنے آخری دیوان کے پیش لفظ میں اقرار کیا ہے کہ ان کا دیوان جنگ میں ضائع ہو گیا۔ اخلاقی شاعری میں ان کے قطعات بہت بلند پایہ ہیں۔ ان کی تمثیلات میں تخیل نہایت قوی ہے۔ کبھی کبھی رموزِ فلسفہ اور نکاتِ تصوف بھی نظم کرتے ہیں۔ انھوں نے ۱۳۶۸ء میں فریود میں ہی انتقال کیا۔

ای پسر ہم نشین اگر خواہی  
ہم نشینی طلب ز خود بہتر  
مثلِ اخگر کہ باہمہ گرمی  
سرد گردد بوصلِ خاکستر  
ورچہ باشد فسرده طبع انگشت  
چون بہ آتش رسد شود اخگر  
گر تو خواہی کہ نیک نام شوی  
دور باش از بد ، ای عزیز پدر  
وین سخن را کہ گفت ابنِ یمن  
در صلاح و فسادِ آن بنگر  
گر پسندیدہ نایدت مشنو  
ور پسند آیدت ازان مگذر

Glossary

فرہنگ

Friend, companion

Spark of fire

Ash

Depressed nature

Goodness

Evil

ساتھی

چنگاری

خاک، راکھ

غمگین طبیعت

خوبی

خرابی

ہم نشین

اخگر

خاکستر

فسردہ طبع

صلاح

فساد

## پرسش Exercise

۱۔ درج ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پُر کیجیے۔

Fill in the blanks with appropriate words.

- ۱۔ ای پسر ..... اگر خواہی
- ۲۔ مثل ..... کہ باہمہ گرمی
- ۳۔ سرد گردد بوصل .....
- ۴۔ ور چہ باشد فسرده ..... انگشت
- ۵۔ چون ..... رسد شود اخگر

Write antonyms of the following words.

۲۔ درج ذیل الفاظ کی ضدیں لکھیے۔

بہتر ، سرد ، فسرده ، نیک نام ، پسندیدہ

Find words from Qata having 'واوِ عطف'

۳۔ قطعے سے واوِ عطف کی مثال تلاش کر کے لکھیے۔

Write examples of 'زیراضافت' from the Qata.

۴۔ قطعے سے زیراضافت کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔

۵۔ اُردو یا انگریزی میں اس قطعے کے بنیادی خیال پر روشنی ڈالیے۔

Explain in Urdu or English the central idea of this Qata.

۶۔ ابنِ یمن نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، اسے اُردو یا انگریزی میں تحریر کیجیے۔

Write the advice given by Ibn Yameen to his son, in Urdu or English.

۷۔ درج ذیل اشعار کو نثر کی صورت میں اُردو یا انگریزی میں لکھیے۔

Write in prose the following couplets in Urdu or English.



- ۱۔ ای پسر ہم نشین اگر خواہی  
ہم نشینی طلب ز خود بہتر
- ۲۔ گر تو خواہی کہ نیک نام شوی  
دور باش از بد ، ای عزیز پدر
- ۳۔ گر پسندیدہ نایدت مشنو  
ور پسند آیدت ازان مگذر